



ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 111 رنز سے ہرا کر پلے آف کی دوڑ سے باہر کر دیا

73 رنز کی اننگز کھیلنے پر شان مسعود پلیئر آف دی میچ قرار

ابو ظہبی، 16 جون 2021ء:

ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے پچیسویں میچ میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 110 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے دوران 9 میں سے 7 میچز ہارنے پر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم فائنل فور کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔

ملتان سلطانز کے اوپنر شان مسعود کو 73 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلنے پر پلیئر آف دی میچ کے اعزاز سے نوازا گیا۔

184 رنز کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی پوری ٹیم 12.1 اوورز میں 73 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔

جیک ویدر و آلڈ اور عثمان خان نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو 27 رنز کا آغاز فراہم کیا جو میچ میں ان کی سب سے طویل پارٹنرشپ رہی۔ جیک ویدر و آلڈ 19 اور عثمان خان 12 رنز بنا کر پویلین واپس لوٹے تو کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی بیٹنگ لائن اپ مکمل طور پر فلاپ ہو گئی اور ایک کے بعد ایک تمام کھلاڑی آؤٹ ہوتے چلے گئے۔

کیمرون ڈیلپورٹ صفر، کپتان سرفراز احمد 13، اعظم خان 2، محمد نواز 10، حسان خان اور خرم شہزاد کھاتہ کھولے بغیر، عثمان شنواری 7 اور ظاہر خان 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔

ملتان سلطانز کے عمران طاہر نے 3 جبکہ عمران خان سینئر نے 2، مزاربان، شاہنواز دھانی اور سپہیل تنویر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان سرفراز احمد نے ملتان سلطانز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو شان مسعود کی جارحانہ بیٹنگ کی بدولت ملتان سلطانز نے مقررہ 20 اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 183 بنائے۔

شان مسعود اور محمد رضوان نے عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ملتان سلطانز کی ٹیم کو 72 رنز کا آغاز فراہم کیا تاہم ملتان سلطانز کو پہلا نقصان اس وقت اٹھانا پڑا جب محمد رضوان 21 رنز بنا کر خرم شہزاد کی گیند پر آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ گئے۔

دوسرے اینڈ سے شان مسعود نے رنز بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے 42 گیندوں پر 73 رنز کی اننگز کھیلی۔ اس اننگز میں 4 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے۔

شان مسعود کے پویلین واپس لوٹنے پر جانسن چارلس نے ملتان سلطانز کی کمان سنبھالی اور رنز بنانے کے رفتار مزید تیز کر دی۔

انہوں نے 2 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 24 گیندوں پر 47 رنز بنائے۔ خوشدل شاہ 20 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خرم شہزاد نے 2 جبکہ محمد نواز، ظاہر خان اور حسان خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کے جاری چھٹے ایڈیشن میں کل دو میچ کھیلے جائیں گئے پہلے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیموں کے مابین ہو گا جبکہ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں مدمقابل ہوں گی۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**  
Editor – Urdu Content  
Media and Communications

Partners



www.psl-t20.com  
@thePSLT20  
@thePSL  
PakistanSuperLeague  
@thepsi

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium,  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4